

Silsila'e Arba'ināt

Chālīs Aḥādīse mubārakah

Zubdatu al-'irfān

fī

Faḍā'ili al-Qur'ān

﴿Fazā'ile Qur'ān﴾

**Shayḫ al-Islām al-Duktūr
Muḥammad Ṭāhir al-Qādirī**

Roman Urdū Transliterator

Dīwān Mōḥsin Shāh



مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

Ḥarfe āghāz

Islām kī jumlah ta‘līmāt Qur’ān Majīd aur Aḥādīse Nabawīyah se mākhūz haiñ. Islāmī ta‘līmāt ke in donoñ sar-chashmon kī nau‘īyat lāzim-o malzūm kī-sī hai. Qur’ān Ḥakīm agar waḥye matlū hai to ḥadīs waḥy ḡhair-matlū hai.

Is nazariyātī wa ‘amalī Dīn kā mukammal namūnah jis hastī meñ maujūd hai woh Rasūl Allāh ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī zāte aqdas hai. Islām ke bunyādī uṣūl wa ta‘līmāt to Qur’ān Majīd meñ maujūd haiñ jab-keh us kī tashrīḥ wa taujīḥ Rasūl Allāh ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī Sunnat aur Aḥādīse mubārakah haiñ. Qur’ān pāk waḥye Ilāhī kā woh ḥatmī majmū‘ah hai jis kī har ḥawāle se ḥifāzat kā zimmah kḥud Allāh Ta‘ālā ne uṭḥāyā. Yeh wāḥīd ilhāmī Kitāb hai jis kā ek ek nuqtah, ek-ek ḥarakat, ek-ek ḥarf aur ek-ek saṭr apnī aṣl ḥālat meñ usī tarḥ maujūd hai jis tarḥ yeh qalbe Muṣṭafā ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam par nāzil huwā thā. Yahī waj·h hai keh ḥaqqānīyat-o ta‘līmāte Islām kā sab se baḡā mākhaz Qur’ān Majīd ko qarār diyā jātā hai aur dūsra baḡā mākhaz Rasūl Allāh ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī Sunnat aur Sīrate muṭahharah hai.

Bilā shub·hah āj ummate Muslimah ke zawāl, kasmapursī aur qa‘re zillat meñ ḍūbe hone kī bunyādī waj·h mukammal zābiṭa’e ḥayāt dene wālī is zindah Kitāb, Qur’ān Ḥakīm kī ḥaqīqī ta‘līmāt se inḥerāf aur rū-gardānī hī hai. Ba-qaul Ḥakīm al-Ummat raḥmaṭu Allāhi ‘alayh:

گد تومی خواہی کہ مسلسل زیستن
نیست مکن جز بقدر آن زیستن

So ummat ke is zawāl aur pastī ko ‘urūj meñ badalne aur us kī ‘ilmī, fikrī, nazariyātī, siyāsī, mu‘asharatī, mu‘āshī, ta‘līmī aur tāhziḇī wa saqāfatī khokhlī bunyādī ko phir se mazbūṭ aur ṭhos banāne ke liye Qur’ān se ṭūṭe huwe hamah-jehatī ta‘alluq ko phir se ba-ḥāl karne kī zarūrat hai.

Shayḵ al-Islām Dōkṭar Muḥammad Ṭāhir al-Qādirī madda zilluhū al-‘ālī ko yeh imtiyāz ḥāṣil hai keh Āp ne ummat ke har maraz ke asbāb kī nah ṣirf munāsib tashkḥīṣ kī bal-keh us kā durust ‘ilāj bhī tajwīz farmāyā. Isī liye Āp ne tāhriḳe Minhāj al-Qur’ān ke ahdāfe sab‘ah (sāt ahdāf) meñ se ‘ta‘alluq billāh’ aur ‘rabṭe risālat’ ke ba‘d tīsraḇaḇā hadaf ‘rujū‘ ilā al-Qur’ān’ ko qarār diyā hai. Zere nazar ‘Arba‘īn’ bhī ummat ke Qur’ān se ṭūṭe huwe us ta‘alluq kī ba-ḥālī ke silsilah kī ek marbūṭ kaṭī hai, jis meñ Qur’ān ḥakīm ke fazā’il par mushtamil

mustanad zakhīra’e ḥadīṣ se chālīs aḥādīṣe mubārakah jam‘a kī ga’ī haiñ.

Du‘ā hai keh Allāhu Ta‘ālā hameñ kamā ḥaqqahū, farmūdāte Nabawī se istefādah karne aur Qur’ān Ḥakīm paḥne, paḥāne, samjhne aur us ke aḥkāmāt par ‘amal-pairā hone kī tawfiq ‘aṭā farmā’e. (Āmīn bi-jāhī Sayyid al-Mursalīn ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam)

(Ḥāfiẓ Zāhīr Aḥmad al-Isnādī)

Risarch scōlar, Farīde millat risarch inṣṭiṭyūṭ



www.TahirulQadriBooks.com

Al-Āyātu al-Qur’ānīyah

1- اَلَمْ ؕ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ؕ فِيْهِ ؕ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱﴾

(البقرة، 2 : 2-1)

“Alif-Lām-Mīm, (ḥaḳīqī ma‘ná Allāh ‘azza wa-jalla aur Rasūl ṣallá Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam hī beh-tar jante haiñ). (Yeh) woh ‘azīm Kitāb hai jis meñ kisī shak kī gunjā’ish nahīñ, (yeh) parhez-gāroñ ke liye hidāyat hai.”

2- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ؕ

(البقرة، 2 : 185)

“Ramaḍān kā mahīnah (woh hai) jis meñ Qur’ān utārā gayā hai jo logoñ ke liye hidāyat hai aur (jis meñ) rah-numā’ī karne wālī aur (ḥaqq-o bāṭil meñ) imtiyāz karne wālī wāzeḥ nishāniyāñ haiñ.”

3- ذٰلِكَ تَتْلُوْهُ عَلَيْنَا مِّنَ الْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾

(آل عمران، 3 : 58)

“Yeh jo ham Āp ko paḥ kar sunāte haiñ yeh) ninshāniyāñ haiñ aur ḥikmat wālī nasīḥat hai.”

4- وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

(هود، 11 : 120)

“Aur ham Rasūloñ kī ḵhabroñ meñ se sab ḥālāt Āp ko sunā rahe haiñ jis se ham Āp ke qalbe (aḥṥar) ko taqwīyat dete haiñ, aur Āp ke pās is (sūrat) meñ ḥaq aur naṣīḥat ā’ī hai aur āḥle īmāñ ke liye ‘ibrat (wa yād-dihāñī bhī).”

5- الرَّاءِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَبِنَ الْغَافِلِينَ

(يوسف، 12 : 3-1)

“Alif-Lām-Rā, (ḥaqīqī ma‘ná Allāḥ aur Rasūl ṣallā Allāḥu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam hī beh-tar jānte haiñ). Yeh raushan Kitāb kī āyateñ haiñ. Be-shak ham

Zubdatu al-‘irfān fī faḍā’ili al-Qur’ān (8)

ne is Kitāb ko Qur’ān kī ṣūrat meñ ba-zabāne ‘Arabī utārā tā-keh tum (ise ba-rāhe rāst) samajh sako. (Ae Ḥabīb!) Ham Āp se ek beh-tarīn qiṣṣah bayān karte haiñ is Qur’ān ke zarī‘ah jise ham ne Āp kī ṭaraf waḥy kiyā hai.”

6- **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٥﴾**

(9 : الحجر، 15)

“Be-shak yeh zikre ‘aẓīm (Qur’ān) ham ne hī utārā hai aur yaqīnan ham hī is kī ḥifāzat karenge.”

7- **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾**

(الحجر، 15 : 87)

“Aur be-shak ham ne Āp ko bār-bār dōhrā’ī jāne wālī sāt āyateñ (ya’nī sūra’e Fātiḥah) aur baṭī ‘azamat-wālā Qur’ān ‘aṭā farmāyā hai.”

8- **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ**

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

(بى إسرائيل، 17 : 9)

“Be-shak yeh Qur’ān is (manzil) kī rāh-numā’ī kartā hai jo sab se durust hai aur un Mominoñ ko jo nek

‘amal karte haiñ is bat kī ḵhush-ḵhabarī sunātā hai keh un ke liye baḡā ajr hai.”

9- وَتُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٩﴾

(بی اسرائیل، 17 : 82)

“Aur ham Qur’ān meñ wo chīz nāzil farmā rahe haiñ jo īmān wāloñ ke liye shifā’ aur raḥmat hai zālimoñ ke liye to şifir nuḡşān hī meñ izāfah kar rahā hai.”

10- فَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لِّدَارِ

(مریم، 19 : 97)

“So be-shak ham ne is (Qur’ān) ko Āp kī zabān meñ hī āsān kar diyā hai tā-keh Āp is ke zarī’ah parhez-gāroñ ko ḵhush-ḵhabarī sunā sakeñ aur is ke zarī’ah jhagrālū qaum ko ḡar sunā sakeñ.”

11- وَمَا كُنتَ تَتْلُوهُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلْمَزْتَآبِ الْمُبْطِلُونَ

﴿١١﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

(العنكبوت، 48-49 : 29)

“Aur (ae Ḥabīb!) Is se pāhle Āp ko’ī Kitāb nahīn paḥha karte the aur nah hī Āp ise apne hāth se likhte the warnah āhle bātil us waqt zarūr shak meñ paḥ jāte. Bal-keh woh (Qur’ān hī kī) wāzeh āyateñ haiñ jo un logoñ ke sīnoñ meñ (māhfūz) haiñ jinheñ (ṣaḥīḥ) ‘ilm ‘atā kiyā gayā hai, aur zālīmoñ ke siwā hamārī āyatoñ kā ko’ī inkār nahīn kartā.”

12- اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَدِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ هُدًى لِّلَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِهِ مَن يَشَاءُ
وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

(الزمر، 39 : 23)

“Allāh hī ne beh-tarīn kalām nāzil farmāyā hai, jo ek Kitāb hai jis kī bāteñ (nazm aur ma‘ānī meñ) ek dūsre se miltī-jultī haiñ (jis kī āyateñ) bār-bār dōhrā’ī ga’ī haiñ, jis se un logoñ ke jismon ke raunḡte khare ho jāte haiñ jo apne Rab se ḍarte haiñ, phir un kī jildeñ aur dil narm ho jāte haiñ (aur riqqat ke sāth) Allāh ke zikr kī ṭaraf (māḥw ho jāte haiñ). Yeh Allāh kī hidāyat hai woh jise chāhtā hai us ke zarī‘e rāh-numā’ī farmātā hai. Aur Allāh jise gum-rāh kar detā (ya’nī gum-rāh ḥoḍ detā) hai to us ke liye ko’ī hādī nahīn hotā.”

13- حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١٣﴾ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ وَاِنَّهُ فِي

اُمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عِلْمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

(الزخرف، 43 : 4-1)

“Hā-Mīm, (ḥaqīqī ma‘ná Allāh aur Rasūl ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam hī beh-tar jānte hain). Qasam hai raushan Kitāb kī. Be-shak ham ne use ‘Arabī (zabān) ka Qur’ān banāyā hai tā-keh tum log samajh sako. Be-shak woh hamāre pās sab kitāboñ kī aṣl (lauḥe māḥfūz) meñ ṣabt hai, yaqīnan (yeh sab kitāboñ par) baland martabah baḡī ḥikmat wālā hai.”

14- وَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿١٤﴾

(القمر، 54 : 17)

“Aur be-shak ham ne Qur’ān ko naṣīḥat ke liye āsān kar diyā hai, to kyā ko’ī naṣīḥat qubūl karne-wālā hai.”

15- اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿١٥﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿١٦﴾

(الواقعة، 56 : 77-78)

“Be-shak yeh baḡī ‘aẓamat-wālā Qur’ān hai (jo baḡī ‘aẓamat-wāle Rasūl par utar rahā hai). (Is se pāhle yeh) lauḡe māḡfūz meḡ (likhā huwā) hai.”

16- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

(الحیبر، 59 : 21)

“Agar ham yeh Qur’ān kisī pahār par nāzil farmāte to (ae muḡhātib!) Tū use deḡhtā keh woh Allāh ke ḡhauf se jhuk jātā, phaḡ kar pās-pās ho jātā, aur yeh miḡāleḡ ham logoḡ ke liye bayān kar rahe haiḡ tā-keh woh ḡhaur-o fikr kareḡ.”

17- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١٧﴾

(القدر، 97 : 1)

“Be-shak ham ne is (Qur’ān) ko shabe qadr meḡ utārā hai.”

18- أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ﴿١٨﴾

(النساء، 4 : 82)

Zubdatu al-‘irfān fī faḍā’ili al-Qur’ān (13)

“To kyā woh Qur’ān meñ ḡhaur-o fīkr nahīn karte? Aur agar yeh (Qur’ān) ḡhaire Ḳhudā kī ṭaraf se (āyā) hotā to yeh log is meñ bōhat-sā iḡhtelāf pāte.”

19- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧﴾

(الاعراف، 7 : 204)

“Aur jab Qur’ān paḡhā jā’e to use tawajjōh se sunā karo aur ḡhāmosh rahā karo tā-keh tum par raḡm kiyā jā’e.”

20- فَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾

(النحل، 16 : 98)

“So jab Āp Qur’ān paḡhne lagen to shayṭān mardūd (kī waswasah-andāziyoñ) se Allāh kī panāh māng liyā karen.”

21- لَا يَسْأَلُهُ إِلَّا الْبَاطِلُونَ ﴿٥٦﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾

(الواقعة، 56 : 79 - 80)

“Is ko pāk (ṭahārat-wāle) logoñ ke siwā ko’i nahīn ḡhū’egā. Tamām jahānoñ ke Rab kī ṭaraf se utārā gayā hai.”

22- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٢٢﴾

(المزمل، 73 : 4)

“Aur Qur’ān khūb ṭhāhar-ṭhāhar kar paḥā karen.”

23- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَحْضُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴿٢٣﴾

(المزمل، 73 : 20)

“Pas jitnā āsānī se ho sake Qur’ān paḥ liyā karo, woh jāntā hai keh tum meñ se (ba‘z log) bīmār honge aur (ba‘z) dūsre log zamīn meñ safar karenge tā-keh Allāh kā faẓl talāsh karen aur (ba‘z) dīgar Allāh kī rāh meñ jāng karenge, so jitnā āsānī se ho sake utnā (hī) paḥ liyā karo.”

www.TahirulQadriBooks.com

Al-Ahādīsu al-Nabawīyah

1- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرٌكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وفي رواية : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Ḥaẓrat ‘Uthmān (bin ‘Affān) raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: tum meñ se beh-tar shaḵḥṣ woh hai jo (ḵḥuḍ) Qur’ān Ḥakīm sīkhe aur (dūsroñ ko bhī) sikhā’e.”

Is ḥadīṣ ko Imām Buḵḥārī ne riwāyat kiyā hai.

Ek riwāyat meñ hai keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: be-shak tum meñ se afẓal shaḵḥṣ woh hai jo (ḵḥuḍ) Qur’ān sīkhe aur (dūsroñ ko bhī) sikhā’e.”

Is ḥadīṣ ko Imām Buḵḥārī ne riwāyat kiyā hai.

:1 أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، 4 / 1919، الرقم:

2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

“Ḥaẓrat ‘Ā’ishah Ṣiddīqah raḍiya Allāhu ‘anhā riwāyat farmātī haiñ keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Qur’ān Majīd kā māhir mu‘azzaz-o mōḥtaram firishton aur mu‘azzam-o mukarram Anbiyā’ ‘alayhimu al-salām ke sāth hogā aur woh shaḫṣ jo Qur’ān paḥtā ho lekin us meñ aṭaktā ho aur (paḥnā) us par (kund-zehn yā moṭī zabān hone kī waj·h se) mushkil ho us ke liye bhī do-gunā ajr hai.”

Yeh ḥadīs muttafaq ‘alay hai, mazkūrah alfāz Imām Muslim ke haiñ.

3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَتَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ مُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.TahirulQadriBooks.com

2: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب سورة عبس، 1882 / 4، الرقم: 4653، ومسلم في الصحيح،

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتبع فيه، 1 / 549، الرقم: 798.

3: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، 4 / 1919، الرقم: 4738،

ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن، 1 / 558، الرقم: 815.

“Ḥaḏrat Abū Hurayrah raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: ḥasad (rashk) to bas do ādmiyoñ se hī karnā jā’iz hai. Pāhlā woh shaḵṣ jise Allāh Ta‘ālā ne Qur’ān (paḥnā wa samajhnā) sikhāyā to woh rāt aur din ke awqāt meñ us kī tilāwat (aur us meñ ḡhaur-o fikr) kartā hai. Us kā paḥosī use Qur’ān paḥte huwe sunta hai to kāh uḥtā hai keh kāsh mujhe bhī is kī miṣl Qur’ān ‘aṭā kiyā jātā to main bhī isī ṭarḥ ‘amal kartā jis ṭarḥ yeh kartā hai. Aur dūsrā woh shaḵṣ jise Allāh Ta‘ālā ne māl baḵshā hai aur woh use Allāh Ta‘ālā kī rāḥ meñ ṣarf kartā hai. Dūsrā shaḵṣ use dekh kar kāhtā hai keh kāsh mujhe bhī itnā māl miltā jitnā use milā hai to main bhī isī ṭarḥ ṣarf kartā jis ṭarḥ yeh kartā hai.”

Yeh ḥadīṣ muttafaq ‘alay hai.

4- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَمْحُمُ أَكْثَرَ أَخْدًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِنَّا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

www.TahirulQadriBooks.com

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

4: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، 1 / 450، الرقم: 1278، والترمذي في

السنن، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، 3 / 354، الرقم: 1036.

“Ḥaḏrat Jābir bin ‘Abd Allāh raḍiya Allāhu ‘anhumā bayān karte haiñ keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam Shōhada’e Uḥud (kī tadfīn ke waqt un) meñ se do, do Ṣaḥāba’e kirām ko ek kapre (ya’nī kafn) meñ jam‘a farmāte aur daryāft farmāte keh in meñ se Qur’ān Majīd kise ziyādah yād hai? Jab un donoñ meñ se ek kī ṭaraf ishārah kiyā jātā to use qabr meñ pāhle utārte aur farmāte: main qiyāmat ke din in sab par gawāh hūngā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Buḥhārī, Tirmidhī, Abū Dāwūd aur Nasā’ī ne riwāyat kiyā hai.

5- عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ .

رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .

“Imām Mālik raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh un tak yeh riwāyat pahōñchī keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: main tumhāre pās do chīzeñ choṛe jāta hūñ

5: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، 2 / 899، الرقم : 1594، والحاكم في المستدرک (عن أبي هريرة رضى الله عنه)، 1 / 172، الرقم 319 :، وابن عبد البر في التمهيد، 24 / 331، الرقم : 128، وأيضاً في جامع بيان العلم وفضله، 2 / 24، 110.

agar unheñ thāme rakhoge to kabhī gum-rāh nah hoge ya‘nī Allāh kī Kitāb aur us ke Nabī kī Sunnat.”

Is ḥadīṣ ko Imām Mālik, Ḥākim aur Ibn ‘Abd al-Barr ne riwāyat kiyā hai.

6- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا حَظِيْبًا. بِمَائِ يَنْدَعِي حُمَا (بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ) فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعظَ وَذَكَرَ. ثُمَّ قَالَ : أَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوْلَهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالثُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَعَبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي... الحديث. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ.

وفي رواية له زاد : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالثُّورُ. مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى. وَمَنْ أَخْطَأَهُ صَلَّى.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حُرَيْمَةَ.

وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا : كِتَابُ اللَّهِ لَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى. وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالٍ لَوْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارِمِيُّ.

“Ḥazrat Zayd bin Arqam raḍiya Allāhu ‘anhu riwāyat karte hain keh ek din Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā

6: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 4 / 1873، الرقم : 2408، والنسائي في السنن الكبرى، 5 / 51، الرقم 8175 : ، وأحمد بن حنبل في المسند، 4 / 366، الرقم : 19285، والدارمي في السنن، 2 / 524، الرقم : 3316، وابن خزيمة في الصحيح، 4 / 62، الرقم : 2357.

Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam hamēn ḵhuṭbah dene ke liye (Makkah wa Madīnah) ke darmiyān tālāb par ḵaṛe huwe jise Ḵhumm kāhte haiñ. Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne Allāh Ta‘ālā kī ḥamd-o sanā’ ke ba‘d farmāyā: main tum meñ do ‘azīm chīzeñ ḷoṛ kar jā rahā hūñ, un meñ se pāhlī Allāh Ta‘ālā kī Kitāb hai jis meñ hidāyat wa nūr hai. Allāh Ta‘ālā kī Kitāb par ‘amal karo aur use mazbūṭī se thām lo, phir Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne Kitābullāh (ke aḥkāmāt par ‘amal karne par) ubhārā aur us kī ṭaraf tarḡhīb dilā’ī aur phir farmāyā: dūsri chīz mere Āhle Bait haiñ main tumheñ apne Āhle Bait ke muta‘alliq Allāh se ḍarātā hūñ, main tumheñ apne Āhle Bait ke muta‘alliq Allāh se ḍarātā hūñ, main tumheñ apne Āhle Bait ke muta‘alliq Allāh se ḍarātā hūñ.

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim, Dārimī aur Aḥmad ne riwāyat kiya hai.

“In hī se marwī ek riwāyat meñ in alfāz kā izāfah hai: (yeh) Allāh Ta‘ālā kī Kitāb hai jis meñ hidāyat aur nūr hai jis ne is Kitāb ko mazbūṭī se thām liyā aur us ke aḥkāmāt par ‘amal kiya woh hidāyat-yāftah hogā aur jis ne ise ḷoṛ diyā woh gum-rāh ho gaya.”

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim aur Ibn Ḵhuzaymah ne riwāyat kiya hai.

“Ek riwayat meñ hai keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: suno! Main tum meñ do ‘aẓīm chīzeñ ḥoḡ kar jā rahā hūñ, ek Allāh ‘azza wa-jalla kī Kitāb hai, jo Allāh kī rassī hai jo is kī ittebā‘ karegā woh hidāyat-yāftah hogā aur jo is ko tark kar degā woh gum-rāhī par hogā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim aur Nasā’ī ne riwāyat kiyā hai.

7- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لِنِّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، كَأَلْبَيْتِ الْحَرْبِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Ḥazrat (‘Abd Allāh) bin ‘Abbās radiya Allāhu ‘anhumā se marwī hai keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: woh shaḫṣ jis ke dil meñ Qur’ān Karīm kā kuḥ ḥiṣṣah bhī nahīñ woh wīrān ghar kī ṭarḥ hai.”

7: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب: (18)، 5 / 177، الرقم: 2913، والدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، 2 / 521، الرقم: 3306، وأحمد بن حنبل في المسند، 1 / 223، الرقم: 1947، والحاكم في المستدرک، 1 / 741، الرقم: 2037، والبيهقي في شعب الإيمان، 2 / 328، الرقم: 1943.

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Dārimī aur Aḥmad ne riwāyat kiyā hai. Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ hai. Aur Ḥākim ne bhī ise ṣaḥīḥu al-isnād kahā hai.

8- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالبَزَّازُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Ḥazrat ‘Abd Allāh bin Mas‘ūd raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Rasūl Allāh ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jis ne Allāh Ta‘ālā kī Kitāb se ek ḥarf paḥā, us ke liye us ke badlah meñ ek nekī hai aur yeh ek nekī das nekiyon ke bar-ā-bar hai. Main yeh nahīn kāhtā hai keh اَلَمْ ek ḥarf hai bal-keh alif ek ḥarf hai, lām ek ḥarf hai aur mīm ek ḥarf hai. (Goyā ṣirf اَلَمْ paḥne se tīs nekiyān mil jātī haiñ).”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Bazzār aur Ibn Abī Shaybah ne riwāyat kiyā hai. Aur Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ hai.

8: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، 6 /

175، الرقم : 2910، والبزار في المسند، 7 / 192، الرقم : 2761، وابن أبي شيبة في المصنف، 6 / 118، الرقم

.29933 :

9- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ الرَّبُّ ل : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذَكَرَنِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضَّلُ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي والبارقي وابن أحمد. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.

“Ḥazrat Abū Sa‘īd (Kḥudrī) raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Allāh Rabbu al-‘Izzat farmātā hai: jis shaḫṣ ko Qur’ān aur merā zikr itnā mashghūl kar de keh woh mujh se kuḥ māng bhī nah sake. To mīn use māngne wāloñ se bhī ziyādah ‘aṭā farmā detā hoñ aur tamām kalāmoñ par Allāh Ta‘ālā ke kalām (Qur’ān Ḥakīm) kī faẓīlat isī tarḥ hai jis tarḥ Allāh Ta‘ālā kī (faẓīlat) apnī maḫlūq par hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Dārimī, ‘Abd Allāh bin Aḥmad ne riwāyat kiyā hai. Aur Imām Tirmidhī ne farmāyā: ḥadīṣ ḥasan gharīb hai.

10- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : إِفْرًا وَارْتَقَى وَرَتَّلَ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

“Ḥazrat ‘Abd Allāh bin ‘Amr raḍiya Allāhu ‘anhumā riwāyat karte haiñ keh Ḥuzūr Nabīye Akram shallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: (roze qiyāmat) Qur’ān Majīd paḥne wāle se kahā jā’egā: Qur’ān Majīd paḥtā jā aur jannat meñ manzil bah manzil ūpar chaḥtā jā aur yūn tartīl se paḥ, jaise to dunyā meñ tartīl se paḥā kartā thā, terā ḥikānā jannat meñ wahān par hogā jahān tū āḳhirī āyāt tilāwat karegā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Abū Dāwūd aur Ibn Mājah ne riwāyat kiya hai. Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ hai.

www.TahirulQadriBooks.com

10: أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب فضائل القرآن ، باب (18) : ، 1775 / ، الرقم : 2914 ، وأبو داود في السنن ، كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة ، 2 / 73 ، الرقم : 1464 ، وابن ماجه (عن أبي سعيد الخدري) في السنن ، كتاب الأدب ، باب ثواب القرآن ، 2 / 1242 ، الرقم : 3780 ، وأحمد بن حنبل في المسند ، 2 / 192 ، الرقم : 6799 ، وابن حبان في الصحيح ، 3 / 43 ، الرقم : 766 ، وابن أبي شيبة في المصنف ، 131 / 6 ، الرقم : 3056 .

11- عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رُكْعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَنْدُرُ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَغْنِي الْقُرْآنَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ .

“Ḥazrat Abū Umāmah raḍiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Allāh Ta‘ālā ne bande ko do rak‘atoñ se, jinheñ woh adā kartā hai, ziyādah faẓīlat wālī kisī chīz kā ḥukm nahīñ diyā. Bandah jab tak namāz meñ rāhtā hai, nekī us ke sar par sāyah-fīgan rāhtī hai aur bande kisī ‘amal se itnā qurbe Ilāhī nahīñ pā sakte jitnā qurb kalāme Ilāhī ya ‘nī Qur’ān Majīd (kī tilāwat) se pā sakte hain.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhi, Aḥmad aur Ṭabarānī ne riwāyat kiyā hai.

12- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ بِأَفْضَلِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَغْنِي الْقُرْآنَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

“Ḥazrat Jubayr bin Nufayr raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte hain keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: be-shak tum

11: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب (17) : ، 176 / 5 ، الرقم : 2911 ، وأحمد بن حنبل في المسند، 5 / 268 ، الرقم : 22360 ، والطبراني في المعجم الكبير، 8 / 151 ، الرقم : 7657 .

12: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب (17) : ، 177 / 5 ، الرقم : 2912 .

Qur’ān Majīd se afḡal ko’ī shai le kar Allāh Ta‘ālā kī ṭaraf nahīn lauṭoge.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī ne riwāyat kiyā hai.

13- عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالتَّاءُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْنُهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْنِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِاللَّيْلِ عَمِلَ بِهَذَا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْتِثْنَاءِ.

“Ḥazrat Sahl bin Mu‘ādh raḍiya Allāhu ‘anhu apne wālid se riwāyat karte hain keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jis ne Qur’ān pāk paṛhā aur us par ‘amal bhī kiyā us ke mān bāp ko qiyāmat ke din ek aisā tāj pāhnāyā jā’egā jis kī raushanī is dunyā meñ logon ke gharon meñ chamakne wāle sūraj kī raushanī se ziyādah ḥasīn hogī. To us ke bāre meñ tumhārā kyā ḡhayāl hai jis ne ḡḥud is par ‘amal kiyā? (Ya’nī us ke mān bāp ko to tāj pāhnāyā jā’egā aur us kā apnā maqām to Allāh Ta‘ālā hī ḡḥub jāntā hai).”

:13 أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن، 2 / 70، الرقم: 1453، وأحمد بن

حنبل في المسند، 3 / 440، وأبو يعلى في المسند، 3 / 65، الرقم: 1493، والحاكم في المستدرک، 1

/ 756، الرقم: 2085.

Is ḥadīṣ ko Imām Abū Dāwūd, Aḥmad aur Abū Ya‘lá ne riwāyat kiyā hai. Aur Imām Ḥākim ne farmāyā-
ṣaḥīḥu al-isnād hai.

14- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِمِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْتَدِرِينَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ .

وفي رواية للذَّهَلِيِّ : مَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُتَّقِينَ .

“Ḥazrat ‘Abd Allāh bin ‘Amr bin ‘Āṣ raḍiya Allāhu ‘anhumā se marwī hai, unhoñ ne bayān kiyā keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jis shaḥṣ ne das āyāt (kī tilāwat) ke sāth qiyām kiyā woh ghāfil bandoñ meñ nahīñ likhā jā’egā. Aur jis shaḥṣ ne sau āyāt (kī tilāwat) ke sāth qiyām kiyā woh iṭā‘at-guzār bandoñ meñ likhā jā’egā, aur jis shaḥṣ ne hazār āyāt (kī tilāwat) ke sāth qiyām kiyā woh (be-ḥadd-o ḥiṣāb) ṣawāb pāne wāloñ meñ likhā jā’egā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Abū Dāwūd aur Ibn Ḥibbān ne riwāyat kiyā hai.

14: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، 2 / 57، الرقم: 1398، وابن حبان في الصحيح،

310 / 6، الرقم: 2572، والدبلي في مسند الفردوس، 3 / 492، الرقم: 528.

Aur Daylamī kī riwāyat meñ hai: “jis shaḵṣ ne hazār āyāt (kī tilāwat) ke sāth qiyām kiyā woh (Allāh Ta‘ālā kī nishāniyon meñ) ḡhaur-o fikr karne wālā likhā gayā.”

15- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لِمَنِ اللَّهُ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ . قَالُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَهْلُ الْقُرْآنِ ، هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ .

“Ḥaẓrat Anas raḍiya Allāhu ‘anhu riwāyat karte haiñ keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: logon meñ se kuḥ Ḥlullāh hote haiñ. Ṣaḥāba’e kirām riḍwānu Allāhi Ta‘ālā ‘alayhim aĵma‘īn ne ‘arḻ kiyā: yā Rasūl Allāh! Woh kaun (ḵḥush-naṣīb) haiñ? Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Qur’ān wāle, wohī Allāh wāle aur us ke ḵhawāṣ haiñ.”

Is ḥadīṣ ko Imām Ibn Mājah, Nasā’ī aur Aḥmad ne riwāyat kiyā hai.

www.TahirulQadriBooks.com

15: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، 1 / 78 /، الرقم : 215، والنسائي في السنن الكبرى، 5 / 17، الرقم : 8031، وأحمد بن حنبل في المسند، 127 / 3، الرقم : 12301، والحاكم في المستدرک، 1 / 743، الرقم : 2046، وقال الحاكم : وقد روى هذا حديث من ثلاثه أوجه عن أنس رضى الله عنه هذا أمثالا.

16- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يُشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ ، مَتَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ . وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَتَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ . قَالَ : فَيُشَفِّعَانِ .

رواه أحمدُ والحاکمُ وابنُ المبارکِ والبیہقی . وَقَالَ الْحَاکِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْهَيْتَمِيُّ : وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

“Ḥazrat ‘Abd Allāh bin ‘Amr raḍiya Allāhu ‘anhumā bayān karte haiñ keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: roze qiyāmat rozah aur Qur’ān donoñ bandah ke liye shafā‘at karenge. Rozah kahegā: ae mere Rab! Maiñ ne is shaḵḥ ko din ke waqt khāne (pīne) aur (dūsūrī) nafsānī ḵhwāhishāt se roke rakhā so to us shaḵḥ ke muta‘alliq merī shafā‘at qubūl farmā. Aur Qur’ān kahegā: ae mere Rab! Maiñ ne is shaḵḥ ko rāt ke waqt jagā‘e rakhā so is ke muta‘alliq merī shafā‘at ko qubūl farmā. Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: to un donoñ kī shafā‘at qubūl kī jā’egi.”

Is ḥadīṣ ko Imām Aḥmad, Ḥākim, Ibn Mubārak aur Bayhaqī ne riwāyat kiyā hai. Aur Imām Ḥākim ne farmāyā: yeh ḥadīṣ Imām Muslim kī sharā’iṭ par ṣaḥīḥ

16: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، 2 / 174، الرقم: 6626، والحاکم في المستدرک، 1 / 740، الرقم: 2036، وابن المبارک في الزهد، 1 / 114، الرقم: 385، والبیہقی في شعب الإيمان، 2 / 346، الرقم: 1994، والمنذري في الترغيب والترهيب، 50 / 2، 230، الرقم: 1455، 2205، والحشمي في مجمع الزوائد، 3 / 181.

hai. Imām Mundhirī aur Haythamī ne bhī kahā: is ke rijāl ṣaḥīḥ ḥadīṣ ke rijāl haiñ.

17- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فَنِيئُوا.

رَوَاهُ النَّارِجِيُّ.

“Ḥaẓrat ‘Abd Allāh bin ‘Amr raḍiya Allāhu ‘anhumā, Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se riwāyat karte haiñ keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: be-shak Qur’ān Allāh tabāraka wa-Ta‘ālā ko āsmānoñ, zamīn aur un ke andar maujūd har ek shai se ziyādah pyārā hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Dārimī ne riwāyat kiyā hai.

وفي رواية : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُنْبِشِرْ.

رَوَاهُ النَّارِجِيُّ. وفي رواية لابن أبي شَيْبَةَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيُنْبِشِرْ. (1)

www.TahirulQadriBooks.com

17: أخرجه الدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب فضل كلام الله على سائر الكلام، 2 / 533، الرقم :

3358، والدلمي في مسند الفردوس، 3 / 230، الرقم : 4679.

(1) أخرجه الدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، 2 / 525، الرقم : 3323.3324،

وابن أبي شيبة في المصنف، 6 / 133، الرقم : 30080.

“Ek riwāyat meñ Ḥaẓrat ‘Abd Allāh (bin Mas‘ud) raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh ḵḥuṣh-ḵḥabarī ho us shaḵḥṣ ke liye jo Qur’ān se maḥabbat kartā hai.”

Ise Imām Dārimī ne riwāyat kiyā hai.

Ibn Abī Shaybah se marwī riwāyat ke alfāẓ haiñ: “ḵḥuṣh-ḵḥabarī ho us shaḵḥṣ ke liye jis ne Qur’ān paḥhā.”

18- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَآذِبُهُ اللَّهُ فَأَقْبِلُوا مِنْ مَآذِبِهِ (1) مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالسِّقَايُ الْتَائِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَهُ، لَا يَرِيغُ (2) فَيَسْتَعْتَبُ (3) وَلَا يَفْوُجُ (4) فَيَمُوتُ، وَلَا تَنْتَضِي عَجَائِثُهُ، وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّيِّ، ائْتَلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا لِي لَا أَقُولُ: أَلَمْ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَأَلَمْ وَمِيمٌ.

رواه الثَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ

صَحِيحٌ الْإِسْتِثْنَاءِ.

18: أخرجه الحاكم في المستدرک، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، 1 / 741، الرقم: 2040، والدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، 2 / 523، الرقم: 3315، وابن أبي شيبة في المصنف، 6 / 125، الرقم: 30008، وعبد الرزاق في المصنف، 3 / 375، الرقم: 6017، والطبراني في المعجم الكبير، 9 / 130، الرقم: 8646، والبيهقي في السنن الصغرى، 1 / 541، الرقم: 983، وأيضاً في شعب الإيمان، 2 / 342، الرقم: 1985، والمنذري في الترغيب والترهيب، 2 / 231، الرقم: 2208.

(1) المأذبة: الطعام يدعى إليه الناس، يقصد منافع القرآن وفوائده العظيمة. (النهاية)

(2) الزيف: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (النهاية)

(3) يستعقب: يتوب ويطلب رضا الله ل ومغفرته. (النهاية)

(4) الاعوجاج: الميل والانحراف والزيف. (النهاية)

“Ḥaḏrat ‘Abd Allāh (bin Mas‘ud) raḏiya Allāhu ‘anhu Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se riwāyat karte haiñ keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāya: be-shak yeh Qur’ān Allāh Ta‘ālā ka dastar-ḵhwān (‘aṭīya-o ne‘nat) hai. Jahāñ tak mumkin ho is ke dastar-ḵhwān meñ se ḥāsil kar lo. Yeh Qur’ān Allāh Ta‘ālā kī rassī, chamaktā-damaktā nūr aur (har rog wa pareshānī kā) naf‘a-baḵsh ‘ilāj hai. Jo is par ‘amal kare us ke liye (bā‘ise) ḥifāzat aur jo is kī pairawī kare us ke liye (bā‘ise) najāt hai. Yeh jhuktā nahīñ keh is ko khaḗ karnā paḗ. Ṭeḗhā nahīñ hotā keh ise sīdhā karnā paḗ. Is ke ‘ajā’ib (rumūz-o asrār, nikāt-o ḥikam) kabhī khatm nah hoñge aur bār-bār kaṣrat se paḗhte rāhne se bhī purānā nahīñ hotā (ya‘nī is se dil nahīñ bhartā) is kī tilāwat kiyā karo kyūñ-keh Allāh Ta‘ālā is kī tilāwat par tumheñ har ḥarf ke ‘iwaz das nekiyoñ kā ajr ‘aṭā farmātā hai. Yād rakho! Maiñ yeh nahīñ kāhtā keh اءم ek ḥarf hai. Bal-keh alif (ek ḥarf hai), lām (ek ḥarf hai) aur mīm (ek ḥarf hai goyā ṣirf اءم paḗhne se hī tīs nekiyāñ mil jāti haiñ).”

www.TahirulQadriBooks.com

Is ḥadīṣ ko Imām Dārimī, Ibn Mājah, Ibn Abī Shaybah, ‘Abd al-Razzāq aur Ḥākim ne mazkūrah alfāz ke sāth riwāyat kiyā hai. Nīz Ḥākim ne is ḥadīṣ ke bāre meñ farmāyā hai keh is kī sanad ṣaḥīḥ hai.

19- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَهْرَأُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ نَبِيَّهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أُفْرَأُ إِذْ عَشَيْتَ شَيْئًا كَالسَّحَابِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ وَالْفَرَسِ فِي النَّارِ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ تَنْفُطَ الْمَرْأَةُ، وَتَنْفُطَ الْفَرَسُ فَاصْرَفْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: افْرَأُ يَا أُسَيْدُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم والبرقائي وعبد الرزاق والطبراني. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.

“Ḥazrat Usayd in Ḥuḍayr raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh woh apne ghar kī ḡhat par Qur’ān paḡhā karte the aur woh böhat ḡhüb-ṡurat āwāz wāle the so woh (Usayd) Ḥuzūr Nabīye Akram ṡallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī ḡhidmat meñ ḡzīr huwe aur ‘arṡ kiyā: (ya Rasūl Allāh!) jab main Qur’ān paḡhta hūñ to bādalon kī ṡarḡ ko’ī chīz mujhe gher letī hai aur mere ghar meñ merī bīwī hai aur ek ghoḡā hai to main ḡar jātā hūñ keh merī bīwī (ḡhauf se) gir nah paḡe aur ghoḡā (ḡar kar) bhāḡ nah jā’e lehāzā main jaldī se (tilāwat se) haṡ jātā hūñ. Āp ṡallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne unheñ farmāyā: ae Usayd! Tum ise paḡhte rahā karo, be-shak yeh ek fīrishtah hai jo Qur’ān ko (böhat shauḡ se) suntā hai.”

19: أخرجه الحاكم في المستدرک، کتاب فضائل القرآن، 1 / 739، الرقم: 2033.2034، وأيضاً، 3 / 326، الرقم:

5259، والبخاری في المسند، 8 / 178، الرقم: 3209، وعبد الرزاق في المصنف، 2 / 486، الرقم: 4182،

والطبرانی في المعجم الكبير، 1 / 207، الرقم: 563.

Is ḥadīṣ ko Imām Ḥākim, Bazzār, ‘Abd al-Razzāq aur Ṭabarānī ne riwāyat kiyā hai. Imām Ḥākim ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ṣaḥīḥ hai.

20- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَضَّلُ الْقُرْآنَ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الرَّخْمِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ.

“Ḥaẓrat Abū Hurayrah raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Qur’ān Majīd kī faẓīlat tamām kalāmoñ par aise hī hai jaise (kḥud is) Raḥmān kī faẓīlat us kī tamām maḥlūqāt par hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Abū Ya‘lá aur Bayhaqī ne riwāyat kiyā hai.

21- عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا فَاقَةَ لِعَبْدٍ يَهْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا غِنَى لَهُ بَعْدَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْقُضَاعِيُّ.

“Ḥaẓrat Ḥasan raḍiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: us shaḥṣ ko (kabhī) fāqah nahīn

20: أخرجه أبو يعلى في المعجم، 1 / 240، الرقم: 294، والبيهقي في شعب الإيمان، 2 / 404، الرقم: 2208.

21: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل من قرأ القرآن، 6 / 120، الرقم: 29954.

والقضاعى في مسند الشهاب، 2 / 46، الرقم: 855.

hogā jo Qur’ān Majīd paḥtā hai aur us (Qur’ān Majīd) ke ba‘d us ke liye (us se baḥt) ko’ī ḡhinā (daulat-mandī) nahīn hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Ibn Abī Shaybah aur Quḍā‘ī ne riwāyat kiyā hai.

وفي رواية : عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطَيْعٍ قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
أَعْمَرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَرُوا بِهِ بَيْتَكُمْ قَالَ : أَرَاهُ يَعْني الْقُرْآنَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ . (1)

“Ḥazrat Salām Ibn Abī Muṭī‘ bayān karte hain keh Ḥazrat Qatādah raḍiya Allāhu ‘anhu bayān kiyā karte the: Qur’ān ke zarī‘e apne dilon aur gharon ko ābād kiyā karo.”

Ise Imām Dārimī ne riwāyat kiyā hai.

22- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : عَدَدُ
دَرَجِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ ، فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ . رَوَاهُ ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ .

“Ḥazrat ‘Ā’ishah raḍiya Allāhu ‘anhā bayān kartī hain keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-

(1) أخرجه الدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب في تعاهد القرآن، 2 / 530، الرقم : 3342.

22: أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً في المصنف، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل من قرأ القرآن، 6 / 120، الرقم :

29952، والبيهقي في شعب الإيمان، 2 / 347، الرقم : 1998، والديلمي في مسند الفردوس، 3 / 58، الرقم :

4158، والمنذري في الترغيب والترهيب، 2 / 228، الرقم : 2199.

Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jannat ke darajāt Qur’ān kī āyāt kī ta‘dād ke bar-ā-bar haiñ. So jab Qur’ān wāloñ meñ se ko’ī jannat meñ dākḥil hogā to us ke ūpar kisī aur kā darjah nahīñ hogā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Ibn Abī Shaybah aur Bayhaqī ne mazkūrah alfāz ke sāth riwāyat kiyā hai.

23. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَتَّى مِنْ أَحْيَائِي الْعَرَبِ، فَلَمْ يَهْرُؤُوهُمْ، فَمَيَّنْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَعِيدٌ أَوْلَيْكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَائِي أَوْ رَاقِي؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَهْرُؤُوا وَلَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّيْءِ، فَجَعَلَ يَهْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَرَاقَهُ وَيَتَّخِذُ فَبَرًا فَأَتَوْا بِالشَّيْءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ، فَصَحَّحَ، وَقَالَ: وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رَقِيَّةٌ خُدُوهَا وَاطْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥaẓrat Abū Sa‘īd Kḥudrī raḍiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke Aṣḥāb meñ se kuḥ Ḥazarāt qabā’ile ‘Arab meñ se ke qabīle meñ ga’e to unhoñ ne un kī ziyāfat nah kī. Isī aṣnā meñ un ke sardār ko kisī mūzī jānwar ne kāṭ khāyā to woh (un ke pās ā kar) kāhne lage: kyā Āp ke pās ko’ī dawā yā dam karne wālā hai? Unhoñ ne kahā: chūñ-keh tum ne hamārī ziyāfat nahīñ kī lehāzā ham us waqt tak kuḥ nahīñ

23: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الطب، باب الرقي بفاتحة الكتاب، 5 / 2166، الرقم: 5404، ومسلم في الصحيح، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، 4 / 1727، الرقم: 2201.

kareñge jab tak tum hamāre sāth kuḅh (mu‘āwazāh) muqarrar nah kar lo. So unhoñ ne (badle meñ) kuḅh bakriyāñ dunyā manzūr kiyā chunāñ-cheh (un meñ se ek ne) sūra’e Fātiḅah paḅhī aur taklīf wālī jagah par thūk diyā. Us kī taklīf dūr ho ga’ī woh bakriyāñ le kar ā’e to un Ṣaḅabah ne kahā: ham us waqt tak nahīñ leñge jab tak Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se is ke muta‘alliq puḅh nah leñ. Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se unhoñ ne pūḅhā to Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam hañs paḅe aur farmāyā: tumheñ kaise ma‘lūm huwā keh yeh (sūra’e Fātiḅah) dam karne kī chīz hai? Ḳhair bakriyāñ le lo aur un meñ merā ḅiṣṣah bhī rakho.”

Yeh ḅadīs muttafaq ‘alay hai.

24 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا
يُؤْتِكُمْ مَقَابِرَ لِنِّ الشَّيْطَانِ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Ḥazrat Abū Hurayrah raḅiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi

24: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوارها في المسجد، 1 / 539، الرقم: 780، والترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، 5 / 157، الرقم: 2877، والنسائي في السنن الكبرى، 5 / 13، الرقم: 8015، وأحمد بن حنبل في المسند، 2 / 388، الرقم: 9030.

wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: apne gharoñ ko qabristān nah banā’o, be-shak Shayṭān us ghar se bhāgtā hai jis meñ sūra’e Baqarah kī tilāwat kī jāti hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim, Tirmidhī, Nasā’ī aur Aḥmad ne riwāyat kiyā hai. Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ hai.

25. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : افْرُقُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. افْرُقُوا الرَّهْرَاقِينَ : الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا عَيْبَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. افْرُقُوا سُورَةَ الْبَقْرَةِ فَإِنَّ أَحَدَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَارِقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدُ.

“Ḥazrat Abū Umāmah Bāhilī raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Qur’ān Majīd paḥhā karo kyūn-keh woh qiyāmat ke din apne paḥhne wāloñ kā shafī‘ ban kar ā’egā, aur do raushan sūraten “sūra’e Baqarah aur sūra’e Āli ‘Imrān” paḥhā kar kyūn-

25: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، 1 / 553،

الرقم : 804، والبارقي (عن بريدة) في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة وآل عمران، 2

/ 543، الرقم : 3391، وعبد الرزاق في المصنف، 3 / 365، الرقم : 5991، وأحمد بن حنبل في المسند، 5

: الرقم 22200، 249

keh woh qiyāmat ke din is ṭarḥ ā’engī jis ṭarḥ do bādāl hoñ yā do sā’e-bān hoñ yā urṭe huwe parindoñ ke do jhuñḍ hoñ aur woh apne paḥne wāloñ kī wakālat karengī. Sūra’e Baqarah paḥnā karo, us kā paḥnā barakat hai aur nah paḥnā ḥasrat hai, jādū-gar is (kī barakāt) ke ḥuṣūl kī isteṭā‘at nahīn rakhte.”

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim, Dārimī, ‘Abd al-Razzāq aur Aḥmad ne riwāyat kiyā hai.

26. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَكْفُرُ شَيْءٌ سِتَامًا وَإِنْ سِتَامَ الْقُرْآنَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وفي رواية: سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، لَا يُمْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

“Ḥazrat Abū Hurayrah raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: har chīz kī ek balandī hai aur be-shak Qur’ān kī balandī sūra’e Baqarah hai aur

26: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، 5 / 145،

الرقم: 2878، وعبد الرزاق في المصنف، 376 / 3، الرقم: 6019، والحاكم في المستدرک، 1 / 748، الرقم:

2058، 2059، والمحيد في المسند، 2 / 437، الرقم: 994.

us meñ ek āyat (ya‘nī) āyatu al-Kursī, tamām Qur’ānī āyāt kī sardār hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī aur ‘Abd al-Razzāq ne riwāyat kiyā hai.

Ek aur riwāyat meñ hai: “be-shak Qur’ān kī balandī sūra’e Baqarah hai aur is meñ ek āyat tamām Qur’ānī āyāt kī sardār hai. Jis ghar meñ bhī yeh āyat paḥī jā’e Shayṭān us ghar se nikal jātā hai. Woh āyātu al-Kursī hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Ḥākim ne riwāyat kiyā aur farmāyā: yeh ḥadīṣ ṣaḥīḥu al-isnād hai.

27- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : الْآيَاتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥaḏrat Abū Mas‘ūd Badrī raḍiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: sūra’e al-Baqarah kī ākhirī do āyateñ jo bhī rāt ko paḥ le to woh use kifāyat kareñgī.”

Yeh ḥadīṣ muttafaq ‘alay hai.

27: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، 4 / 1914، الرقم : 4722، ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، 1 / 554، الرقم : 806.

28- عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَئِنْ
اللَّهُ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْقَمِيِّ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَاتَيْنِ حَمَمٌ مِثْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
وَلَا يَهْرَأَنَّ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَهْرُطُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي والنسائي والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال
الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

“Ḥazrat Nu‘mān bin Bashīr raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Allāh Ta‘ālā ne zamīn-o āsmān ke paidā karne se do hazār sāl pāhle ek Kitāb likhī jis meñ se do āyateñ utārīn yahī āyateñ sūra’ e Baqarah kā ākhir haiñ jis ghar meñ yeh āyāt tīn din paḥī jā’ en, Shayṭān us ke qarīb nahīn ātā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Nasā’ī aur Dārimī ne riwāyat kiyā hai. Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan ḡharīb hai. Ḥākim ne farmāyā: Imām Muslim kī sharā’iṭ par ṣaḥīḥ hai.

29- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَئِنْ
اللَّهُ حَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِأَتَمِّينِ أُعْطِيَهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلَّمُوهُنَّ فَيَسَأَلَنَّكُمْ،
فَأُحْتَمَا صَلَاةً وَقُرْآنًا وَدُعَاءً.

رواه الثَّارِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

“Ḥazrat Jubayr bin Nufayr raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: be-shak Allāh Ta‘ālā ne ṣūra’e Baqarah kā iḵtetām do aisī āyatoñ ke zarī’e kyā hai jo us ne mujhe apne ‘arsh ke nīche rakhe huwe ḵhazāne se dī haiñ, tum unheñ ḵhud bhī sīkho aur apnī ‘auratoñ ko bhī sikhā’o, yeh donoñ namāz bhī haiñ, Qur’ān bhī aur du‘ā bhī.”

Is ḥadīṣ ko Imām Dārimī, Abū Dāwūd aur Ḥākim ne riwāyat kiya hai. Imām Ḥākim ne farmāyā: yeh ḥadīṣ Imām Buḵhārī kī shart par ṣahīḥ hai.

30- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَهْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَإِلَى جَانِبِهِ
حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِسَطَلَتَيْنِ، فَتَعَسَّثَهُ سَمَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَذْنُو، وَتَذْنُو وَجَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

www.TahirulQadriBooks.com

29: أخرجه الدارمي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي، 2 / 542، الرقم
3390، وأبو داود في المراسيل / 120، الرقم: 91، والحاكم في المستدرک، 1 / 750، الرقم: 2066، والبيهقي
في شعب الإيمان، 2 / 461، الرقم: 2403.

30: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف، 4 / 1914، الرقم: 4724،
ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، 1 / 547، الرقم: 795.

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥazrat Barā’ bin ‘Āzib raḍiya Allāhu ‘anhu riwāyat karte haiñ keh ek ādamī sūra’e Kahf paṛh rahā thā aur uske pās hī do rassiyoñ ke sāth ek ghoṛā bañdhā huwā thā, pas us ādamī ke ūpar bādal ḡhā gayā aur woh us ke nazdīk se nazdīk-tar hotā gayā, yahāñ tak keh us kā ghoṛā bidakne lagā. Jab ṣubḥ ke waqt woh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī bār-gāh meñ ḥāzīr huwā aur Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī bār-gāh meñ ḥāzīr huwā aur Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se is wāqe‘ah kā zikr kiyā, to Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: woh sakīnah (ya‘nī firishtaḥ) hai jis kā tilāwate Qur’ān ke bā‘is nuzūl huwā.”

Yeh ḥadīṣ muttafaq ‘alay hai.

31- عَنْ أَبِي الدَّرْدَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَخْرَجَ سُورَةَ الْكَهْفِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

31: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، 1 / 555556، الرقم: 809، وأبو داود في السنن، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، 4 / 117، الرقم: 4323، والنسائي في السنن الكبرى، 5 / 15، الرقم: 8025.

“Ḥaḏrat Abū Dardā’ raḏiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā‘ jo shaḫṣ sūra’e Kahf kī pāhlī das āyāt yād kar legā woh Dajjāl (ke shar) se māhfūz rahegā.”

Ek riwāyat meñ hai: “sūra’e Kahf kī āḫir se (das āyāt).”

Is ḥadīs ko Imām Muslim, Abū Dāwūd aur Nasā’ī ne riwāyat kiyā hai.

32- عَنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورَةِ ثَلَاثٍ : الْبُقُرَّةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطَةَ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ.

“Ḥaḏrat Qāsim raḏiya Allāhu ‘anhu, Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam se marwī riwāyat bayān karte haiñ keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Allāh Ta‘ālā kā woh isme a‘zam jis ke zarī‘e agar du‘ā kī jā’e to qubūl hotī hai. In tīn sūratoñ meñ hai. Sūra’e Baqarah, sūra’e Āli ‘Imrān aur sūra’e Tā-hā.”

(1) قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي (م 112هـ) وثقة.

32: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الدعائ، باب اسم الله الأعظم، 2 / 1267، الرقم : 3856، والطبراني في

المعجم الأوسط، 8 / 192، الرقم : 8371.

Is ḥadīṣ ko Imām Ibn Mājah aur Ṭabarānī ne riwāyat kiyā hai.

33- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسُّ، وَمَنْ قَرَأَ يَسُّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَائَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.

“Ḥazrat Anas raḍiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: har chīz kā ek dil hai aur Qur’ān kā dil sūra’ e Yā-Sīn hai, jis ne sūra’ e Yā-Sīn paḥī Allāh Ta‘ālā us ke liye das martabah (mukammal) Qur’ān paḥne kā sawāb likhegā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Dārimī aur ‘Abd al-Razzāq ne riwāyat kiyā hai.

وفي رواية: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: افْرَأُوا يَسَّ عَلَى مَوْتَاكُمْ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. (1)

www.TahirulQadriBooks.com

33: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل يس، 5 / 149150، الرقم: 2887،

والدارمي في السنن، 2 / 548، الرقم: 3416، وعبد الرزاق في المصنف، 3 / 372، الرقم: 6009.

(1) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، 3 / 191، الرقم: 3121، وابن ماجه في

السنن، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ما يقال عند المريض إذا حضر، 1 / 466، الرقم: 1448، والنسائي في

السنن الكبرى، 6 / 265، الرقم: 10913، وأحمد بن حنبل في المسند، 5 / 27، الرقم: 20329.

“Ḥaḏrat Ma‘qal bin Yasār raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: apne wafāt pāne walōn ke pās “sūra’e Yā-sīn” paḥhā karo.”

Is ḥadīṣ ko Imām Abū Dāwūd, Ibn Mājah, Nasā’ī aur Aḥmad ne riwāyat kiyā hai.

34- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ عُفِّرَ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّارِيُّ وَأَبُو يَعْلَى.

“Ḥaḏrat Abū Hurayrah raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jis shaḥṣ ne Jumū‘ah kī rāt sūrat Ḥā-mīm al-Duḥhān kī tilāwat kī use baḥsh diyā jātā hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Dārimī aur Abū Ya‘lā ne riwāyat kiyā hai.

35- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَقَقْتُ لِرَجُلٍ حَتَّى عُفِّرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدُوهُ الْمَلِكُ.

www.TahirulQadriBooks.com

34: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل حمّ الدخان، 5 / 163، الرقم: 2889، والدارمي (عن عبد الله بن عيسى) في السنن، 2 / 550، الرقم: 3421، وأبو يعلى في المسند، 11 / 93، الرقم: 6224، والمنذري في التزييب والترهيب، 1 / 298، الرقم: 1099.

35: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، 5 / 151، الرقم: 2891، وأبو داود في السنن، كتاب شهر رمضان، باب في عدد الآي، 2 / 57، الرقم: 1400، وابن ماجه في السنن،

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ

: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتِاد.

“Ḥazrat Abū Hurayrah raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmayā: Qur’ān Majīd meñ ek aisī sūrat hai jis kī tīs āyāt haiñ. Us ne ek (paṛhne wāle) ādamī kī sifārish kī aur woh baḫshh diya gayā aur yeh sūra’e Mulk - تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - hai.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Abū Dāwūd aur Ibn Mājah ne riwāyat kiyā hai. Imām Tirmidhī ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ḥasan hai. Imām Ḥākim ne bhī ise ṣaḥīḥu al-isnād qarār diyā hai.

36- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ كُلَّ لَيْلَةٍ، مَنَعَهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُسَعِّيهَا الْمَنَاعَةَ، وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ، مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، قَدَّ أَكْثَرَ وَأَطَابَ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

www.TahirulQadriBooks.com

کتاب الأدب، باب ثواب القرآن، 2 / 1244، الرقم: 786، وأحمد بن حنبل في المسند، 2 / 299، الرقم: 7962، والحاكم في المستدرک، 1 / 753، الرقم: 2075.

36: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك، 6 / 179، الرقم: 10547، والطبراني في المعجم الأوسط، 6 / 212، الرقم: 6216.

“Ḥaḏrat ‘Abd Allāh bin Mas‘ūd raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh jo shaḵḥ har rāt sūra’e (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) paṛegā, Allāh Ta‘ālā us se ‘azābe qabr ko rok degā. Ham Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke daur meñ use (‘azābe qabr ko) rokne wālī kahā karte the. Yeh Allāh Ta‘ālā kī Kitāb kī aisī sūrat haiñ keh jis ne har rāt is kī tilāwat kī us ne böhat ziyādah aur achḥā ‘amal kiyā.”

Is ḥadīṣ ko Imām Nasā’ī aur Ṭabarānī ne riwāyat kiyā hai.

37- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلُّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلُّهُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

“Ḥaḏrat ‘Abd Allāh bin ‘Abbās raḍiya Allāhu ‘anhumā se marwī haiñ keh Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: sūra’e Zilzāl, niṣf Qur’ān, sūra’e Iḵhlāṣ tihā’ī Qur’ān aur sūra’e Kāfirūn chauthā’ī Qur’ān ke bar-ā-bar hai.”

37: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في إذا زلزلت، 5 / 166، الرقم: 2894، والحاكم في المستدرک، 1 / 754، الرقم: 2078، والطبرانی في المعجم الكبير، 12 / 405، الرقم: 13493.

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī, Ḥākīm aur Ṭabarānī ne riwāyat kiyā hai. Imām Ḥākīm ne farmāyā: yeh ḥadīṣ ṣaḥīḥu al-isnād hai.

38- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
يُرِيدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ
يَتَمَلَّأُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ.

“Ḥazrat Abū Sa‘īd Ḳhudrī radiya Allāhu ‘anhu se riwāyat hai keh ek ādamī ne dūsre ādamī ko (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) kī tilāwat karte huwe sunā aur yeh keh woh bār-bār use dōhrātā hai. Jab ṣubḥ hū’ī to woh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kī ḳhidmat meḥ ḥāzīr huwā aur yeh mājrā Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke sāmne zikr kiyā goyā keh woh ise ma‘mūlī samajh rahā thā. To Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: mujhe us zāt kī qasam jis ke qabẓa’e qudrat meḥ merī jān hai! Yeh sūrat tihā’ī Qur’ān ke bar-ā-bar hai.”

www.TahirulQadriBooks.com

38: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد، 4 / 1915، الرقم: 4726،
وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب في سورة الصمد، 2 / 72، الرقم: 1461، والنسائي في السنن، كتاب
الافتتاح، باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد، 2 / 171، الرقم: 995، ومالك في الموطأ، كتاب القرآن،
باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، 1 / 208، الرقم: 485.

Is ḥadīṣ ko Imām Buḫḫārī, Abū Dāwud aur Nasā’ī ne riwāyat kiyā hai.

39- عَنْ أَبِي الدَّرْدَايِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **أَيُّجِزُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَهْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَهْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِيلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ.**

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَارِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى.

وفي رواية قال: **لِرَأَى اللهُ جِزَاءَ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَجْزَائٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ جُزْأً مِنْ أَجْزَائِ الْقُرْآنِ.**

“Ḥazrat Abū Dardā’ raḍiya Allāhu ‘anhu bayān karte haiñ keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: kyā tum meñ se ko’ī shakḥṣ har rāt tihā’ī Qur’ān Majīd nahīn paḥ saktā? Ṣaḥāba’e kirām ne ‘arḥ kiyā: (yā Rasūl Allāh!) Tihā’ī Qur’ān Majīd kaise paḥegā? Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: sūrah **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** tihā’ī Qur’ān Majīd ke bar-ā-bar hai.”

www.TahirulQadriBooks.com

39: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله، 1 / 556، الرقم: 811، والنسائي في السنن الكبرى، 6 / 172، 176، الرقم: 10511، 10537، والباري في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل قل هو الله أحد، 2 / 552، الرقم: 3431، وأحمد بن حنبل في المسند، 6 / 447، الرقم: 27562، وابن حبان في الصحيح، 6 / 314، الرقم: 2576، وأبو يعلى (عن أبي سعيد) في المسند، 2 / 295، الرقم: 1018.

Is ḥadīṣ ko Imām Muslim, Nasā’ī, Dārimī, Aḥmad aur Abū Ya‘lá ne riwāyat kiyā hai.

“Ek aur riwāyat meñ hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallá Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: Allāh Ta‘ālā ne Qur’ān Majīd ke tīn ḥiṣṣe kiye aur sūra’e **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** un meñ se ek ḥiṣṣah hai.”

وفي رواية قال : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتِي مَرَّةً قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُجِيءٌ عَنْهُ ذُنُوبٌ تَحْسِبِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَنْبٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّارِضِيُّ. (1)

“Ek riwāyat meñ Ḥazrat Anas bin Mālik raḍiya Allāhu ‘anhu se marwī hai keh Ḥuzūr Nabīye Akram ṣallá Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ne farmāyā: jo shaḫṣ rozānah do sau martabah sūra’e Iḫhlāṣ paṛhe us se pachās sāl ke gunāh miṭā diye jāte hain siwā’e is ke keh us par qarḷ ho.”

Is ḥadīṣ ko Imām Tirmidhī aur Dārimī ne riwāyat kiyā hai.

40- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ

(1) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص، 5 / 154155، الرقم :

2898، والناربي في السنن، 2 / 553، الرقم : 3438.

40: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الطب، باب الرقي بالقرآن والمعوذات، 5 / 2165، الرقم : 5403، ومسلم

في الصحيح، كتاب السلام، باب رقية المريض، 4 / 1723، الرقم : 2192.

فِي الْمَرِيضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمَعْوَدَاتِ، فَلَمَّا تَمَلَّ كُنْتُ أَنفُثُ عَلَيْهِ يَمِينًا وَأَمْسَحُ بِيَدِي نَفْسَهُ لِرُكْبَتَيْهَا. فَسَأَلْتُ الرَّهْرِيَّ: كَيْفَ يَنْفُثُ؟ قَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِحِمَا وَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Ḥazrat ‘Ā’ishah raḍiya Allāhu ‘anhā bayān kartī haiñ keh Ḥuẓūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam apne is maraz meñ jis ke andar Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kā wiṣāl huwā mu‘awwizāt paḥ kar apne ūpar dam kiyā karte the, jab taklīf ziyādah ho ga’ī to main yahī sūraten paḥ kar Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam par dam kiyā kartī thī aur bā-barakat hone ke bā’is Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam kā (apnā) daste aqdas Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam (jism mubāarak) par pherā kartī thī. Main (Ma‘mar) ne (Ibn Shihāb) Zuhri se pūḥā keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam dam kis tarḥ kiyā karte the? Farmāyā: sūraten paḥ kar apne hāthon par phūnk mārte phir unheñ apne chehre par pher liyā karte.”

Yeh ḥadīṣ muttafaq ‘alay hai.

41- وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمَعْوَدَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. جَعَلْتُ أَنفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِي نَفْسَهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَهٍ مِنْ يَدَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

41: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، 4 / 1916، الرقم: 4728، ومسلم في الصحيح، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، 4 / 1723، الرقم: 2192.

“Ḥaḏrat ‘Ā’ishah raḏiya Allāhu ‘anhā riwāyat kartī hain keh jab Ḥuḏūr Nabīye Akram ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke āhl meñ se ko’ī bīmār hotā to Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ﴿فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ aur ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ parḥ kar us par dam karte, jab Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam maraḏe wiṣāl meñ mubtalā the to main Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam par dam kartī aur Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke hāth ko Āp (ke jasade aqdas) par phertī, kyūñ-keh Āp ṣallā Allāhu ‘alayhi wa-Ālihī wa-sallam ke hāth mere hāth se ziyādah bā-barakat the.”

Yeh ḥadīṣ muttafaq ‘alay hai aur mazkūrah alfāz Muslim ke hain.

Maṣādir al-taḫrīj

1. القرآن الحكيم-
2. ابن اثير، ابو الحسن على بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد شيباني جزرى (555-630 هـ / 1160-1233ء)- النهاية في غريب الحديث والآثر- مصر: دار احياء الكتب العربية-
3. احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (164-241 هـ / 780-855ء)- المسند- بيروت، لبنان: المكتب الاسلامى، 1398 هـ / 1978ء-
4. بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256 هـ / 810-870ء)- الادب المفرد- بيروت، لبنان: دار البشائر الاسلامية، 1409 هـ / 1989ء-
5. بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256 هـ / 810-870ء)- التاريخ الكبير- بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية-
6. بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة (194-256 هـ / 810-870ء)- الصحيح- بيروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم، 1401 هـ / 1981ء-
7. بزار، ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصرى (210-292 هـ / 825-905ء)- المسند بيروت، لبنان: 1409 هـ-
8. يهقي، ابوبكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى (384-458 هـ / 991-1066ء)- الاعتقاد- بيروت، لبنان، دارالآفاق الجديد، 1401 هـ-
9. يهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى (384-458 هـ / 994-1066ء)- السنن الصغرى- مدينة منوره، سعودى عرب: مكتبة البار، 1410 هـ / 1989ء-
10. يهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى (384-458 هـ / 994-1066ء)- السنن الكبرى- مكه مكرمه، سعودى عرب: مكتبة دار الباز، 1414 هـ / 1994ء-
11. يهقي، ابو بكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى (384-458 هـ / 994-1066ء)- شعب الايمان- بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1410 هـ / 1990ء-
12. ترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن ضحاک سلمى (210-279 هـ / 825-892ء)- السنن- بيروت، لبنان: دار الغرب الاسلامى، 1998ء-
13. حاكم، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (321-405 هـ / 933-1014ء)- المستدرک على الصحيحين- مكه، سعودى عرب: دار الباز للنشر و التوزيع-
14. ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (270-354 هـ / 884-965ء)- الصحيح- بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، 1414 هـ / 1993ء-

15. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (773-852ھ / 1372-1449ء)۔
فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ لاہور، پاکستان: دار نشر الکتب الاسلامیہ، 1401ھ / 1981ء۔
16. حکیم ترمذی، ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن بن بشیر۔ نوار الاصول فی احادیث الرسول۔ بیروت، لبنان: دار الجیل، 1992ء۔
17. حمیدی، ابو بکر عبد اللہ بن زبیر (219ھ / 834ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ + قاہرہ، مصر: مکتبۃ المنتبٰی۔
18. ابن خزیمہ، ابو بکر محمد بن اسمحاق (223-311ھ / 838-924ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: المکتبۃ الاسلامی، 1390ھ / 1970ء۔
19. دار قطنی، ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان (306-385ھ / 918-995ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، 1386ھ / 1966ء۔
20. دارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن (181-255ھ / 797-869ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العربی، 1407ھ۔
21. ابو داؤد، سلیمان بن اشعث سبحستانی (202-275ھ / 817-889ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1414ھ / 1994ء۔
22. ابو داؤد، سلیمان بن اشعث سبحستانی (202-275ھ / 817-889ء)۔ المراسیل۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالۃ، 1408ء۔
23. دہلی، ابو شجاع شیروہ بن شہردار بن شیروہ الہمذانی (445-509ھ / 1053-1115ء)۔ مسند الفردوس۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1406ھ / 1986ء۔
24. ابن رابوہ، ابو یعقوب اسمحاق بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم بن عبد اللہ (161-237ھ / 778-851ء)۔ المسند۔ مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ الایمان، 1412ھ / 1991ء۔
25. رویانی، ابو بکر محمد بن ہارون رویانی (307ھ)۔ المسند۔ قاہرہ، مصر: مؤسسۃ قرطبہ، 1416ھ۔
26. سیوطی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (849-911ھ / 1445-1505ء)۔ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1993ء۔
27. ابن ابی شیبہ، ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان کوفی (776-849ء)۔ المصنف۔ ریاض، سعودی عرب: مکتبۃ الرشد، 1409ھ۔
28. طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (260-360ھ / 873-970ء)۔ المعجم الاوسط۔ قاہرہ، مصر: دار الحرمین، 1415ھ۔
29. طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (260-360ھ / 873-970ء)۔ المعجم الصغیر۔ بیروت، لبنان: المکتبۃ الاسلامی، 1405ھ / 1985ء۔

30. طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الكبير۔ موصل، عراق: مطبعة الزبيراء الحديثه۔
31. طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (260-360ھ / 873-971ء)۔ المعجم الكبير۔ قاہرہ، مصر: مکتبہ ابن تیمیہ۔
32. طیالسی، ابو داود سلیمان بن داود جارود (133-204ھ / 751-819ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ۔
33. ابن ابی عاصم، ابو بکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی (206-287ھ / 822-900ء)۔ الآحاد والمثانی۔ ریاض، سعودی عرب: دار الراية، 1411ھ / 1991ء۔
34. ابن ابی عاصم، ابو بکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی (206-287ھ / 822-900ء)۔ السنۃ۔ بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، 1400ھ۔
35. عبد بن حمید، ابو محمد بن نصر الکنسی (249ھ / 863ء)۔ المسند۔ قاہرہ، مصر: مکتبۃ السنۃ، 1408ھ / 1988ء۔
36. ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد الثمیری، (368-463ھ / 979-1071ء)۔ التمجید لما فی المواطن من المعانی والاسانید۔ مغرب (مراکش): وزارت عموم الاوقاف، 1387ھ۔
37. عبد اللہ، بن احمد بن حنبل (213-290ھ)۔ السنۃ۔ دمام: دار ابن قیم، 1406ھ۔
38. عبد الرزاق، ابو بکر بن بہام بن نافع صنعانی (126-211ھ / 744-826ء)۔ المصنف۔ بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، 1403ھ۔
39. ابو عوانہ، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن زید نیشاپوری (230-316ھ / 845-928ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، 1998ء۔
40. قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محمد بن یحییٰ بن مفرج اموی (897ھ / 990ء)۔ الجامع لاحکام القرآن۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی۔
41. قضاعی، ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ بن جعفر (454ھ)۔ مسند الشہاب۔ بیروت، لبنان: موسستہ الرسالہ، 1407ھ۔
42. ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوہ بن کثیر بن زرع بصری (701-774ھ / 1301-1373ء)۔ تفسیر القرآن العظیم۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، 1401ھ۔
43. لاکانی، ابو قاسم حبیب اللہ بن حسن بن منصور (م 418ھ)۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ من الکتاب والسنۃ واجماع الصحابہ۔ ریاض، سعودی عرب، دار طیبہ، 1402ھ۔
44. ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید قزوینی (209-273ھ / 824-887ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1419ھ / 1998ء۔
45. مالک، ابن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن حارث اصبحی (93-179ھ / 712-795ء)۔ المواطن۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، 1406ھ / 1985ء۔

46. ابن مبارک، ابو عبد الرحمن عبد الله بن واضح مروزی (11181ھ / 736-798ء)۔ کتاب الزهد۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔
47. مسلم، ابن الحجاج ابو الحسن القشیری النیسابوری (206-261ھ / 82875ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربیہ۔
48. منذری، ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد الله بن سلامہ بن سعد (656581ھ / 1185-1258ء)۔ الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف۔ بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیہ، 1417ھ۔
49. نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب (215-303ھ / 830-915ء)۔ السنن۔ حلب، شام: مکتب المطبوعات، 1406ھ / 1986ء۔
50. نسائی، احمد بن شعیب، ابو عبدالرحمن (215-303ھ / 830-915ء)۔ السنن الکبریٰ۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، 1411ھ / 1991ء۔
51. نووی، ابو زکریا، یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام (631-677ھ / 1233-1278ء)۔ شرح صحیح مسلم۔ کراچی، پاکستان: قدیمی کتب خانہ، 1375ھ / 1956ء۔
52. واسطی، اسلم بن سہل رزاز (م 292ھ)۔ تاریخ واسط۔ بیروت، لبنان: عالم الکتاب، 1406ھ۔
53. بیہقی، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (735-807ھ / 1331405ء)۔ مجمع الزوائد۔ قاہرہ، مصر: دار الریان للتراث + بیروت، لبنان: دار الکتاب العربی، 1407ھ / 1987ء۔
54. ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن مثنیٰ بن یحییٰ بن عیسیٰ بن بلال موصلی تمیمی (210-307ھ / 825-919ء)۔ المسند۔ دمشق، شام: دار المامون للتراث، 1404ھ / 1984ء۔
55. ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن مثنیٰ بن یحییٰ بن عیسیٰ بن بلال موصلی تمیمی (307210ھ / 825-919ء)۔ المعجم۔ فیصل آباد، پاکستان: ادارۃ العلوم الاثریہ، 1407ھ۔